

Vol. II
No. 12.

Friday,
3rd September, 1954



HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

	PAGE
Business of the House	573-591
L.A. Bill No. XVIII of 1954, the Hyderabad Abolition of Inams Bill 1954—Clause by Clause reading not concluded ..	
L.A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad Prisoners Bill—2nd reading concluded	591-597

Note:—* at the Commencement of the speech denotes
confirmation not received.

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Friday, the 3rd September, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

QUESTIONS AND ANSWERS

(See Part I)

Business of the House

شری ورکاتم گوپال ریڈی (میڑچل) :- مسٹر اسپیکرسر۔ میں نے پریولیجس کمیٹی (Privileges Committee) کو ریفر کرنے کے لئے ایک درخواست پیش کی تھی۔

مسٹر اسپیکر :- درخواست کب پیش کی گئی تھی؟

شری ورکاتم گوپال ریڈی :- ایک گھنٹہ پہلے۔

مسٹر اسپیکر :- وہ میرے پاس آئیگی۔ اس پر کل غور کیا جائیگا۔

L.A. Bill No. XVIII of 1954, the Hyderabad Abolition of Inams Bill, 1954.

Clause 13

Mr. Speaker : Let us take up amendments to clause 13.

The Minister for Excise, Forests and Revenue (Shri K. V. Ranga Reddy) : Sir, I beg to move :

“ That for clause 13, substitute the following :

‘ 13. The compensation payable to the Inamdar, kabiz-e-kadim, permanent, protected tenant or non-protected tenant for inam lands in their possession before the date of vesting and taken over by Government in excess of four and a half times the ‘ family holding ’ under sections 4, 5, 6, 7, and 8 respectively, shall—

(1) in respect of cultivated lands be the following multiples of the amount of land revenue payable on such lands—

(a) lands taken over from non-protected tenants, ten times ;

(b) lands taken over from protected tenant or permanent tenant fifteen times;

(c) lands taken over from the kabiz-e-kadim or inamdar, twenty times;

(2) in respect of uncultivated lands be the following multiples of the amount of land revenue which could reasonably be assessed on such lands—

(a) lands taken over from non-protected tenant, four times;

(b) lands taken over from protected tenant or permanent tenant six times; and

(c) lands taken over from the kabiz-e-kadim or inamdar, eight times.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri M. Rami Reddy (Wanparthy) : Sir I beg to move:

“That for paras (i) and (ii) substitute the following:

‘(i) ten times of the land revenue for wet lands,

(ii) fifty times of the land revenue for dry lands.’”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri M. Rami Reddy : Sir, I beg to move:

“Omit the portion beginning with ‘the’ in line 8 and ending with ‘prescribed’ in the last line of the clause.”

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri A. Guruva Reddy (Siddipet) : Sir, I beg to move an amendment to the amendment of Shri K. V. Ranga Reddy:

“That in para 1 (a) after the words ‘ten times’ add the words “if they are dry lands and 5 times if they are wet lands”

In para 1(b) after the words ‘fifteen times’ add the words : ‘if they are dry lands and 7 times if they are wet lands.”

In para 1(c) after the words ‘twenty times’ add the words : ‘if they are dry lands and ten times if they are wet lands,’

Similarly, in para 2 (a), after the words "four times", add the words : "if they are dry lands and 2 times if they are wet lands."

In para 2 (b), between the words 'six times' and 'and' insert the words : 'if they are dry lands and three times if they are wet lands'

In para 2(c), after the words 'eight times' add the words : 'if they are dry lands and 4 times if they are wet lands'"

Mr. Speaker : Amendment to amendment moved.
The hon. Member will, however, give his amendment to amendment in writing.

Shri Devi Singh Chauhan (Ausa) : Sir, I beg to move an amendment to the amendment of Shri K. V. Ranga Reddy :

"That in para 1(a) after the words 'ten times' add the words : 'in case of dry lands and 5 times in case of wet lands'

In para 1(b) after the words 'fifteen times' add the words : 'in case of dry lands and 7 times in case of wet lands'

In para (1) (c), after the existing words, add the words : 'in case of dry lands and 10 times in case of wet lands'.

In para (2) (a), after the existing words 'lands taken over from non-protected tenant, four times' and before ';' add the words 'in case of dry lands and two times in case of wet lands'.

In para (2) (b), between the words 'six times' and insert the words : 'in case of dry lands and three times in case of wet lands'..

In para (2) (c), after the words 'times' delete '."' and add the words : 'in case of dry land and four times in case of wet land'.

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri A. Guruva Reddy : Mr. Speaker, Sir, Is this amendment not the same as the one which I wanted to move :

Mr. Speaker : The copy of the amendment is not before me, but if it is the same, this need not have been moved.

Shri A. Guruva Reddy : It is exactly the same.

Mr. Speaker : Both the hon. Members should give their amendments to me in writing.

Shri Devisingh Chouhan : The multiples I have suggested may not necessarily be the same as the hon. Member suggested in his amendment moved.

Mr. Speaker : But *Shri A. Guruva Reddy* says they are the same.

Shri Devisingh Chouhan : I would like to have a copy of his amendment, and I shall give him mine.

Mr. Speaker : Both the amendments should be given to me in writing.

These are amendments to amendment No. 1 of *Shri K. V. Ranga Reddy* and as these are not clear, let discussion take place on amendment No. 4 of *Shri M. Rami Reddy*.

శ్రీ కె. రుల్ల. నరసింహరావు :— స్థికర్ సర్, ఈ కొడు నెంబరు १८ లో సబ్—కొడు ఒకటిలో ఒక సవరణ సబ్కొడ్జులో ఒక సవరణ నాచి వున్నాయి. మన ప్రభుత్వము కేంద్రార్గసమస్యల్లోనుపుడు గాని, లేక భూమిమాద కొడ్జు కలిగివున్న బీదరైతాంగం విషయం వచ్చినుపుడుగాని, వారి విషయం గురించి, వారికి ఏ విధంగా సౌకర్యాలు కలిగించాలనే దానిని గురించి ఆలోచించ తానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించదు. ఈనాందారులకు కొనీండి, భూస్వాములకు కొనీండి, వాళ్ళకు సౌకర్యాలు కలుగజేయటం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంది. వారికి సౌకర్యములు కలిగించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కృషిచేస్తోంది. ఇప్పుడు నష్టపరిహారం ఏదైతే ఇనాందార్లకు ఇవ్వటానికి కిర్ధయించబడిందో ఆప్యపరిహారం అనలు ఇప్పటివే ఒక అన్నాయిము. అచ్చటి ప్రాంతియు రైతాంగాన్ని, బీద ప్రతిస్థానికి దోషి ఇనాందార్లను బలపరచి వారికి అన్నిధిధార దోషివెట్టటానికి యా ప్రభుత్వము పయత్వం చేస్తోందని ఒక ప్రక్కన దేశం ఖుపిస్తూంటే, మరొప్రక్క యా ప్రభుత్వము ఈనాందార్లకు నష్టపరిహారాన్ని వడ్డితోసహా చెల్లించేండాకు ప్రయత్నిస్తోంది. ప్రభుత్వం ఈనాందార్ల రైతాలుపుట్ట దళ్ళాంగా వుండి “మేము వడ్డితోసహా మిాకు నష్టపరిహారమును వసూలు చేసి పెడతాము” అని చెఱితోంది. వడ్డితోసహా చెల్లించాలనే పోర్సన్ ఏదైతే ఉండో, అందులో వడ్డి అనే భాగాన్ని లిసివేయాలని నేను సవరణ ప్రవేశ చెట్టాను. నీ సవరణను అంగీకరించి యా చట్టం ప్రకారం వడ్డి రేకండా ప్రభుత్వం వసూలు చేసే ప్రయత్వం చేయించాలని కోరుతున్నాను.

ఇక, రెండో సవరణ ఏమంటే, ఎవరైతే రైతాంగం ఉన్నారో, అ రైతాంగంయేక్క అండ్రీక డుఫ్టి లిని చూసినపుడు, ప్రభుత్వం ఏదైతే వారు పెడ్డ మొత్తాన్ని నష్టపరిహారం చెల్లించాలని

నిర్దూలుంచిందో, ఆ నవ్వుపరిహారాన్ని వారు ఒకేసారి చెల్లించటానికి లేక కొద్దీ కిస్తులలో చెల్లించటానికి సాధ్యపడు. ప్రభుత్వము బీడ రైతాంగానికి గం వాయిదాలలో చెల్లించే సౌకర్యం మాత్రమే కల్గించింది. ఇప్పుడు, రైతాంగం అర్థిక సంయోధానికి లోనై, అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు. వారు అశ్చికంగా దుట్టిలికి లోనై వున్నారు. అక్కడవన్న ఈనాందార్థకు రత్నాగావుండే ప్రభుత్వ బృంధము కూడా ఈ బీర రైతాంగాన్ని దోషకొన్న కారణంగా వారు ఆ పరిహారాన్ని ఒకేసారి చెల్లించుకొనే స్థితిలో లేరు. కొద్దీ కిస్తీ లోపల కూడ చెల్లించలేరు. అక్కడ ఇన్నాందార్థ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వున్నారు. వీరందరూ ఆ రైతాంగాన్ని నవ్వుపరుస్తున్నారు. ఇప్పుడు మంత్రిగారు యూ అనెంబ్లీలోనే ఈనాందార్థను సహార్పుచేయటానికి ప్రయత్నిస్తూంటే, అక్కడ ప్రభుత్వే ద్వేశులు వారిని సహార్పుచేయట న్నాయమా అన్నాయమా, అని ఆలోచించడం అనవసరమను కొండి. కొంగ్సెనాలాఫీనేలతలుని, మాదీ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యమా వహించిన ప్రజాతంత్ర ప్రభుత్వమని సగర్వంగా చెప్పుకొనే మంత్రిగారు, ఈనాందార్థకు నవ్వుపరిహారం వడ్డీతోసహా చెల్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళకు గం కిస్తీలలో చెల్లించే అవకాశమైనా కల్గించాలని, ఆ సౌకర్యాలు రైతాంగానికి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. కొబట్టి వడ్డీ అనే భాగం ఏకైకే ఉండో ఆ భాగాన్ని తొలగించాలని, గం కిస్తీలలో చెల్లించే అవకాశం కల్గించాలని, చెప్పి ఏమైతే నేను సవరణలు తీసుక వచ్చినో వాటిని మంత్రిగారు అమోదిస్తారని ఆజిస్తున్నాను.

مسٹر اسپیکر : اس وقت تک وہ دونوں امendmentس دیکھ لئے جائیں کہ آیا وہ ایک ہی ہیں - پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ آنریبل ممبر انچارج آف دی بل کو وہ امendment میظور ہے یا نہیں -

- *Shri M. Rami Reddy* : In view of amendment to amendment No. 1, I do not like to press my amendment. I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker : What about amendment No. 6?

Shri M. Rami Reddy : There is no need of it now. As I had withdrawn my other amendment, I beg leave of the House to withdraw that amendment also.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

شروعی جی - گوبال راؤ (پاکھاں) :- پائیٹ آف انفریشن سر - اس کلاز کے بارے میں ممبر ان چارج آف دی بل سے ایک کلیریفیکیشن (Clarification) چاہتا ہوں -

مسٹر اسپیکر :- میں فی الحال کلاز (۱) کے ڈسکشن کو بعد کیلئے رکھتا ہوں اور اب کلاز (۲) لیتا ہوں -

Clause 14

Shri K. L. Narsimha Rao (Yellandu-General) : I beg to move :

" That in lines 2 and 3 of sub-clause (1), omit the portion beginning with the word 'and' and ending with the word 'payment'."

(b) "In para (i) of sub-clause (2), for 'ten' substitute : 'twenty'."

Mr. Speaker : Amendment moved :

Shri B. D. Deshmukh : (Bhokardan-General) : I beg to move :

"That in lines 1 and 2 of para (ii) of sub-clause (2), omit : 'carrying interest at the rate specified in sub-section (1)'."

Mr. Speaker : Amendment moved.

* شری بی - ڈی - دیشمکھ : - مسٹر اسپیکر - دفعہ (۱۲) میں میں نے جو ترمیم پیش کی ہے وہ ایک چھوٹی سی ترمیم ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے تحت انعامداروں کو یا قابض قدیم کو دفعات ۸ - ۶ - ۵ - ۴ اور ۱۳ کے تحت جو معاوضہ دیا جانے والا ہے اس معاوضہ کے سلسلہ میں دفعہ (۱۲) ایک پروسیجرل سکشن (Procedural section) ہے - معاوضہ کے متعلق پالیسی کے سلسلہ میں اس جانب کے آنریل مبرس نے حکومت کی مخالفت کی ہے - اور حتی الامکان یہ کوشش کی کہ جو معاوضہ دیا جانے والا ہو وہ کم سے کم دیا جائے۔ اور وہی معاوضہ دیا جائے جو بالکل مناسب اور موزون ہو۔ اور دینے والوں پر بار کا موجب نہ ہو۔ اس سلسلہ میں کہ معاوضہ دیا جائے یا نہ دیا جائے کافی بحث ہوئی ہے۔ اس تفصیل سے ہٹ کر جو معاوضہ دیا جانے والا ہے اوسکو اقساط میں ادا کرتے وقت اوس کا سود نہ لیا جائے یہی میری ترمیم ہے - میں سمجھتا ہوں کہ آنریل منسٹر اون لوگوں پر اتنا ترس ضرور کھائیں گے کہ معاوضہ دلاتے وقت سود دلانے کی بھی کوشش نہیں کریں گے - میری ترمیم یہ بھی ہے کہ دفعہ (۱۲) کے تحت جو بانڈس (Bonds) دئے جا رہے ہیں اون پر کوئی سود عائد نہ ہو۔ اور وہ بھی بلا سودی ہوں۔ اس لحاظ سے دفعہ (۱۲) کے ضمن (۲) کے ذیلی ضمن (۲) میں ترمیم یہ ہے کہ

"In bonds either negotiable or non-negotiable carrying interest at the rate specified in sub-section (1)."

سب سکشن (۱) میں جو انٹریسٹ رکھا گیا ہے وہ ٹو اینڈ تھری فورٹھ پرسنٹ

پر آئم۔) رکھا گیا ہے جو بانڈ کی شکل میں 2 $\frac{3}{4}$ % per annum دینا چاہئے۔ میری ترمیم یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا بانڈ ہو یا انسٹالمنٹ (Instalment) ہو دونوں صورتوں میں سود نہ لیا جائے۔ اس قانون کے تحت جو پریم (Premium) یا کمپنیشن ادا ہوگا یعنی دفعات ۱۳ - ۸ - ۵ - اور ۱ - کے تحت اوس پر کسی قسم کا سود نہ دلا�ا جائے۔ اس لحاظ سے میں نے بانڈس کے سلسلہ میں یہ ترمیم پیش کی ہے کہ

“Carrying interest at the rate specified in sub-section (1)”

ڈیلٹ (Delete) کثیر جائیں۔ ان الفاظ کے ڈیلٹ ہو جانے کے بعد جو عبارت باقی رہیگی اوس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بانڈس بلا کسی سود کے ہونگے اور اون پر کسی قسم کا سود عائد نہیں کیا جائیگا۔

* شری جی - گوپال راؤ : - اس دفعہ میں انٹرست دینے کے لئے رکھا گیا ہے - میں ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جا گیر ابالیشن ایکٹ (Jagir Abolition Act) کے تحت بھی کمپنیشن دیا جا رہا ہے لیکن اس کمپنیشن کے لئے کوئی انٹرست نہیں ہے۔ وہ ۱۸ کروڑ کا کمپنیشن ہونے کے باوجود اس پر کوئی انٹرست نہیں ہے تو پھر ہمارے اس قانون میں جہاں ایک کروڑ یا ۶۰۰ لاکھ کا کمپنیشن ہے اسپر ۲ پرسنٹ انٹرست رکھنے کے کیا معنی - نگوشیبل (Negotiable) یا نان نگوشیبل بانڈس کے لئے انٹرست (Interest) دینا کانسٹیوشن کے کسی آرٹیکل میں موجود نہیں ہے۔ ملٹری گورنر کے زمانہ میں جا گیر ابالیشن کا جو قانون بنا اس میں انٹرست موجود نہیں ہے لیکن ہماری عوامی حکومت بننے کے بعد اس بل میں انٹرست دلانا چاہترے ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عوام کی بھلائی کے لئے نہیں ہے۔ ۲۰ پرسنٹ کے لحاظ سے نگوشیبل بانڈس کو لیا جائے تو معاشی نقطہ نظر سے اس کا کیا اثر پڑیگا۔ یہ بل جب تیار ہو رہا تھا تو کیا فینанс ڈپارٹمنٹ سے اذوائیں (Advice) نہیں لی گئی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس پر فینанс ڈپارٹمنٹ خاموش رہا۔ انٹرست پڑھانے کی وجہ سے حیدر آباد کے معاشی حالات پر کیا اثر پڑیگا اس پر غور کرنا چاہئے۔ اس لئے ایوان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملٹری گورنر کے زمانہ کے قانون میں انٹرست نہیں ہے تو اس پر بھی انٹرست نہ رکھنا چاہئے۔ لہذا آنریبل ممبر شری بی ڈی۔ دیشمکو صاحب کے امنڈمنٹ کو قبول کر لیا جائے۔

* شری ایل - این - ریندی : - سٹر اسپیکرسر۔ اپوزیشن کی جانب سے دو امنڈمنٹ پیش ہوئے ہیں۔ ایک امنڈمنٹ تو یہ ہے کہ ۲۰ سال کی مدت میں انعامداروں کو رقم ادا کی جائے۔ بل میں دس سال کی مدت رکھی گئی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اسکی مقامدار کیا ہو سکتی ہے اور آیا ہم دس سال کی مدت میں یہ رقم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ جتنا ماؤنٹ ہمیں ادا کرنا ہے ہمیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کل میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ ہمیں تقریباً ۱۰ کروڑ روپیے معاوضہ کے طور پر دینا ہوگا۔ اگر مالگزاری کے

لحاظ سے ۲۰ پرنسٹ ڈیڈکٹ () کیا جائے اور انعامداروں کو لحاظ سے پرنسٹ معاوضہ دیا جائے تو اس میں کچھ کمی ہو گی۔ آج ہی ہمارے منسٹر صاحب ونپری میں کسقدار سیریات ہیں وہ بتلاتے ہیں اور گدوال میں کتنی سیریات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ دونوں ایسے استیشنس (Estates) ہیں جہاں ہزاروں روپیہ مالگزاری وصول ہوتی ہے۔ حساب کر کے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ ہمیں لاکھوں روپیہ ادا کرنا پڑیگا۔ تمثیلاً میں ان دو استیشنس کو لیتا ہوں۔ آج منسٹر صاحب نے والی سمسستان کے نام سے جو اراضیات ہیں اون کی مالگزاری ۳۴ ہزار بتلاتی ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہاں سب کے سب پرمیٹ ٹینش ہی ہیں (اگرچہ ایسا نہیں ہے) تو بھی ان ٹینش سے ۱۱ لاکھ روپیے معاوضہ کے طور پر وصول کئے جائیں گے اور اس میں جوشیر (Share) والی سمسستان کو ملیکاً وہ تقریباً ۷ لاکھ روپیے ہے جو وہ اٹرست (With interest) دینا پڑیگا۔ میں یہ حساب محفوظ قولداروں کے لحاظ سے ورکاوٹ (Workout) کر رہا ہوں۔ اگر وہاں نان پروٹکٹ ٹینش ہیں تو ۵ ۲۰ لاکھ ۸۰ ہزار کا معاوضہ ہو گا جو کاشتکاروں سے وصول کیا جائے گا اور اس میں سے ۱۶ لاکھ روپیہ والی سمسستان کو ملے گا۔

اب دوسرے سمسستان گدوال کو لیجئیں جہاں ۲۸ ہزار کی مالگزاری وصول ہوتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ وہاں پروٹکٹ ٹینش ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں ۹۵ فیصد پروٹکٹ ٹینش ہیں تو ہمکو کسقدار معاوضہ دینا پڑیگا۔ اگر وہاں ۲۸ ہزار زر مالگزاری وصول ہوتی ہے تو ۱۲ لاکھ روپیہ کاشتکاروں سے وصول کریں گے۔ اگر وہاں دوامی قولدار ہیں تو آپ انعامداروں کو ۲۰ ہزار روپیے ایصال کریں گے۔ اور یہ دس سال میں ادا ہونگے۔ اگر پروٹکٹ ٹینش ہیں تو ۱۹ ۲۰ لاکھ روپیے آپ پروٹکٹ ٹینش سے وصول کریں گے اور والی سمسستان کو ۱۲ لاکھ روپیہ دینگے۔ اگر وہاں نان پروٹکٹ ٹینش ہیں تو ۲۸ ہزار لاکھ وصول کریں گے جسکے منجمہ ۱۷ لاکھ ۲۸ ہزار والی سمسستان کو دینا پڑیگا۔ اسی طریقے سے آپ کولاپور اور آتو پور کے سمسستانوں کو دینگے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کولا پور میں ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ ہزار یکر کی سیریات ہیں۔ وہ بھی فروخت کی گئی ہیں۔ اب ۲۰ پرنسٹ لیکر ۲۰ پرنسٹ دین تو وہاں بھی تقریباً ۱۰ لاکھ روپیے ایصال کرنا پڑیگا۔ آپ اون لوگوں کو جو لاکھوں روپیہ وصول کرچکے ہیں اب مزید اتنی بڑی رقم ۱۰ سال میں دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ رعایا پرسختی ہو گی اور خزانہ پر بار ہو گا۔ اسلئے میں موور آف دی بل سے استدعا کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ پہلے جاگیرات کے معاوضہ کے طور پر لاکھوں روپیے دلاچکے ہیں اور اب انعام کے طور پر لاکھوں روپیہ دین تو یہ رعایا کے حق میں سختی ہو گی۔ کل تک تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ انکو معاوضہ نہ دیا جائے لیکن اس کا آپ پر کوئی اثر نہوا اسلئے کم از کم اب آپ ۲۰ سال کی مدت میں بانڈس اشیو (Issue) کریں تو کوئی فرق نہیں پڑیگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آٹریبل منسٹر اس پر سنجدگی پر غور کریں گے۔

اسکے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہونکہ اس رقم پر سود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جیسا کہ ایک آنریبل ممبر نے بتایا ہم نے جاگیرات میں بھی کمپنیشن کا تعین کیا لیکن اسپر سود نہیں دیرہ ہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے جس میں سود نہ دینے کے لئے طے کیا گیا تو بھریاں ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور بھریاں یہ سوال ہے کہ رعایا سے جتنا وصول کرسکتے ہیں کریں گے تو رعایا سے کم از کم سود وصول نہ کرنا چاہئے۔ میں امید کرتا ہونکہ آنریبل منسٹر اسپر بھی سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔

* شری. رامराव आवरणावकर (गेवराजी) :—अध्यक्ष महोदय, कलम १४ मध्ये ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्यासंबंधी मी माझे विचार सभागृहापुढे सादर करणार आहे.

अनामदारांच्या ज्या जमीनी आहेत त्या काढून घेण्याच्या व अनाम करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा सरकारने आणला आहे. पण सर्वसाधारण जनतेच्या या कायद्यापासून बच्याचआशा आकांक्षा होत्या कीं या कायद्यामुळे पुज्कळ लोकांना जमीनी मिळतील वरैरे. परंतु हा जो कायदा माननीय मंथांनी सभागृहाला सादर केला आहे तो त्यांनी फक्त लोकांच्या डोळ्यांत घूळ झोकप्यासाठी आणला आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाहीं.

या कायद्यामुळे अनामदारांना कॉम्पेन्सेशन देऊन त्यांच्या जवळून अनामी जमीनी काढून घेण्यांत येणार आहेत. याबद्दल माझे असे म्हणणे आहे कीं अनामदारांनी आतापर्यंत कोणतेहि कष्ट केलेले नाहीं आणि घासिही गावळा नाहीं व या जमीनीवर चैन केली.—

मिस्टर स्पीकर :—त्याच त्या गोष्टी पुन्हापुन्हा अैकवण्यांत काय अर्थ आहे ? हच्चा गोष्टी पूर्वी सांगण्यांत आलेल्या आहेत.

श्री. रामराव आवरणावकर :—त्या दृष्टीने मी बोलत नाहीं.

मिस्टर स्पीकर :—हच्चा गोष्टी कितीतरी वेळां सांगितल्या गेल्या आहेत आणि मागेच यांचा निकाल लागला. त्याच गोष्टी पुन्हापुन्हा सांगून हाबूसचा वेळ घेण्यांत काय अर्थ आहे ?

श्री. रामराव आवरणावकर :—हा जो गरीब लोकांवर अन्यथा होतो—

मिस्टर स्पीकर :—हच्चा सर्व गोष्टी झालेल्या आहेत.

श्री. रामराव आवरणावकर :—माझे अवडेच म्हणणे आहे कीं हे जे व्याज घेतले जाणार आहे तें घेऊ नये. या दृष्टीने मी माझे विचार सभागृहापुढे ठेवले आहेत. अवडे बोलून मी आपले भाषण संपवितो.

श्री. रुखमाजी धोंडीबा पाटील :—(आष्टी) :—मिस्टर स्पीकर सर, क्लाज १४ के तहत हाबुस के अंदर अपोजीशन की तरफ से जो कहा जा रहा है अूस लिहाज से अगर हम देखें और दस्तूर के लिहाज से सोचें तो पीछे जो कुछ जिस बिल के तहत बहस हो गयी अूसमें पूरी बातें तय हो गयी हैं। अब रहा मसला जिस क्लॉज १४ के तहत सूद के बारे में। यिसके बारे में अपोजीशन की

तरफ से कुछ मुखालिफत की जा रही है। जो काम्पेन्सेशन देना तय हो गया है वह सरकार चाहे तो शेक मुश्त दे या १० साल में दे। जो मामूली सूद रखा गया है वह तय हो गया है। यह देने में मुझे कोओ दुश्वारी नहीं मालूम होती। अपोजीशन की तरफ से जितना विरोध किया जा रहा है लेकिन वह अेक बात भूल रहे हैं। वह अगर क्लॉज ६ को मुलाहिजा फरमायेंगे तो आनरेबल मिनिस्टर को अन्हें मुबारकबाद देना चाहिये क्योंकि असमें यह है कि जिन टेनन्ट्स की तरफ से १० साल में अकसात के तौर पर रुपया लिया जायगा अनकी रकम पर अेक हब्बा भी सूद नहीं लिया जा रहा है। जिन गरीबों की तरफ से जो रकम सरकार लेगी वह लाखों रुपये की होगी लेकिन वह अकसात के तौर पर ली जा रही है और अस पर कोओ सूद आयद नहीं किया गया है। यही रकम जो टेनन्सी के तहत ली जाने वाली है वह ८ साल में ली जानेवाली है लेकिन अस बिल के तहत वह १० साल में ली जायगी। और टेनन्सी अकट के तहत अस रकम पर जहां तक मेरा ख्याल है ३ टके सूद लिया गया है लेकिन अस कानून में कोओ सूद नहीं आयद किया गया है। असलिये में आन-रेबल मूँहर आफ दि बिल को बार बार मुबारकबाद देता हूँ। आप अच्छे पढ़े लिखे लोग होने पर भी मिनिस्टर साहब का और सरकार का अस क्लाज के बारे में कोओ शुक्रिया अदा नहीं करते यह बड़ी ताज्जुब की बात है। हमारी सरकार गरीबों के लिये जितनी हमदर्दी बतलाती है। हर अेक मेंबर जो काश्तकारों का नुमांजिदा कहलाता है असको गवर्नरमेंट का असके लिये शुक्रिया अदा करना चाहिये।

شري اے - گرو ریڈی - نوابوں کو کیوں دیا جा रहा है ये بتलाया जाए -

श्री. रस्खमाजी धोडीबा पाटील :—आप ही सोच सकते हैं। दस्तूर के लिहाज से नहीं दिया जाना चाहिये अैसा अगर आप साबित कर सकते हैं तो मूँहर आफ दि बिल और गवर्नरमेंट असके बूपर जरूर सोचेंगी। अगर काम्पेन्सेशन नहीं दिया गया तो लोग अदालत में जा सकते हैं और अगर अदालत अस कानून को नाकामियाब ठहराती है तो हमने अब तक जितना खर्च किया, मेहनत की वह सब नाकाम हो जायगी। जो सूद रु. २-१२-० का हर साल हर सेंकड़े पर देने के लिये सरकार ने अस बिल में रखा है वह दस्तूर के लिहाज से रखा है। अस बिल में गरीबों के लिये बहुत सहूलत है और यह कानून बहुत अच्छा है। असलिये क्लाज १४ के तहत जो मडमेंट आजीज़ हैं अनके मूँहर्स अनको सुशी से वापस ले लें क्योंकि मेहनत करनेवाले काश्तकार तबके का असमें फायदा है। आखिर में मूँहर आफ दि बिल को फिर से मुबारकबाद देते हुओ में अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

شري کے - وی - رنगरیڈی :— میسٹر اسپیکر سر - کلاز (۱۳) میں ۲ ترمیمات پیش ہوئی ہیں - لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ سود نہ دینا چاہئے خواہ نالہ کی صورت میں ہو یا پائی کی صورت میں ہو سود نہ دینا چاہئے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا कہ معزز ممبرس پیان دیشکھوں راجاؤں اور انعامदاروں کی حاصل کیسے کر رہے ہیں - اسی سود دینے کا اصول انعامدار کے لئے بھی ہے - دوامی قولدار کے لئے بھی ہے محفوظ قولدار کے لئے بھی ہے - قابض قدیم کے لئے بھی ہے - دفعہ ۱۳ یہ ہے کہ زر معاوضہ سرکوز ہونے کی تاریخ سے اس کے دئے جانے کی تاریخ تک ۳/۴ فیصد سالانہ سود عائد ہو گک

آپ یہاں کہتے ہیں کہ سود کی شرط نہوف چاہئے - پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ معاوضہ ہی نہیں دینا چاہئے - لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ معاوضہ دینا ضروری ہے - معاوضہ جائز قرار پایا - اور اگر یہ معاوضہ ہے۔ اسال تک باقساط ادا کیا جاتا ہے تو اسی دلیل کے تحت جس دلیل کے تحت کہ معاوضہ دینا طے پایا ہے سود دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے - آپ معاوضہ کی رقم دس سال تک دے رہے ہیں تو آپ کو اس مدت میں رقم کا سود دینا ہے ہی پڑیگا - اب شرح سود کا سوال رہتا ہے - حکومت حیدرآباد خود اپنے پرائمیسری نوٹس پر ۲ فیصد کے حساب سے سود دیتی ہے - آپ یہاں ۳ فیصد سود رکھ رہے ہیں - ہم نے تو یہاں حتی الامکان کم سے کم سود رکھنے کی کوشش کی ہے - اس لئے میں کہوں گا کہ یہ ترمیم نامنظور ہونی چاہئے - اور موجودہ دفعہ منظور ہونا چاہئے -

Mr. Speaker : The question is :

"(a) That in lines 2 and 3 of sub-clause (1), omit the portion beginning with the word 'and' and ending with the word 'payment'.

(b) In para (i) of sub-clause (2), for 'ten' substitute: 'Twenty'."

The motion was negated.

Mr. Speaker : The question is :

"That in lines 1 and 2 of para (ii) of sub-clause (2) omit 'Carrying interest at the rate specified in sub-section (1)'."

The motion was negated.

Mr. Speaker : The question is :

"That Clause 14 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

مسٹر اسپیکر :- اب دفعہ ۳، لیا جائیگا۔ کیا آنریل میٹسٹرنے اس کلاز کو دیکھ لیا ہے؟

شری کے - وی - رنگا رڈی :- میں نے اس کلاز میں شری دیوی سنگھ چوہان کے امنڈمنٹ کو، اس کی ورڈنگ (Wording) ٹھیک ہونے کے لحاظ سے، منظور کر لیا ہے۔ دوسری ترمیم بھی گواسی مقصد سے بیش ہوئی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔

شری بی۔ ڈی - دیشمکھ: - ہمیں منظور کی جانے والی ترمیم کو دیکھ لینا ہوگا۔

- اسکے علاوہ اس دفعہ پر ڈسکشن () بھی نہیں ہوا ہے -
اس نئے اس دفعہ کو بعد میں لیا جائے تو مناسب ہے -

- سٹر اسپیکر: - مناسب ہے - دفعات ۱۰ اور ۱۶ لینے کے

Clauses 15 and 16

Mr. Speaker: There are no amendments to Clauses 15 and 16. The question is :

"That Clauses 15 and 16 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

Clause 17

Mr. Speaker: The hon. Member in whose name an amendment stands is not present in the House. I shall put the clause to vote. The question is.

"That Clause 17 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18

Shri Devisingh Chauhan: I do not want to move the amendment standing in my name.

Mr. Speaker: The question is :

"That Clause 18 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19, 20 21, & 22

Mr. Speaker: There are no amendments to clauses 19, 20, 21 and 22. The question is :

"That Clauses 19 to 22 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 19 to 22 were added to the Bill.

Clause 28

Shri B. D. Deshmukh : I beg to move :

"That for the words 'the prescribed authority', wherever occurring in the clause, substitute : 'Revenue Board'.

Mr. Speaker : Amendment moved.

* شری بی۔ ڈی۔ دیشمنکھ : — مسٹر اسپیکر سر۔ دفعہ ۲۳ کو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ —

"Any person aggrieved by a decision of the Collector under section 10 may, within thirty days from the date of the decision or such further time as the prescribed authority may for sufficient cause allow, appeal to the prescribed authority and its decision shall be final."

جیسا کہ یہاں ابتدائی اختیار ساعت دفعہ ۱۰ کے لحاظ سے کلکٹر کو دیا گیا ہے تو کلکٹر کی تجویز کی ناراضی سے جو م RAFUE ہوں گے اس کے بارے میں اس قانون میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ آیا م RAFUE کی ساعت کا اختیار کس کو دیا جائے گا اس کے لئے کوئی جیج مقرر کیا جائے گا یا ریونینیو بورڈ کے ممبر کو مقرر کیا جائے گا ۔ انعامی اراضیات کے تعلق سے کلکٹر کے بعد اپیلیٹ اتھارٹی (Appellate Authority) جو افسر ہوگا وہ ریونینیو بورڈ ہی ہوگا ۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بجاۓ کسی دوسرے شخص کو اپیلیٹ اتھارٹی مقرر کرنے کے کلکٹر کی تجویز کی ناراضی سے م RAFUE ریونینیو بورڈ میں پیش کیا جائے تو باعث سہولت ہوگا ۔ دوسری چیز میرے امندمنٹ میں یہ ہے کہ عام طور پر اس قانون کا تعلق دیبات کے (۹۰) فصل کاشتکاروں سے ہوگا خواہ پروٹکٹڈ ٹینٹنس ہوں یا نان پروٹکٹڈ ٹینٹنس یا سادہ قابض ۔ اگر م RAFUE کا تعلق کسی سیول آفیسر یا عدالت کے عہدہ داروں سے رکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ رعایا کو م RAFUE کرنے میں کافی دشواریاں پیش آئیں گی کیون کہ وہاں رسوم عدالت ۔ میعاد میاعت وغیرہ کے جھگڑے ہوں گے ۔ اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ اپیلیٹ اتھارٹی ریونینیو بورڈ کو رکھا جائے تاکہ قانون کی پابندی میں بھی سہولت ہو ۔ اور حکومت کو بھی اس میں سہولت ہو گی کہ وہ بجاۓ کسی اعلیٰ عہدہ دار کو مقرر کرنے کے موجودہ ریونینیو بورڈ کے تفویض اس کام کو کرسکتی ہے ۔ اس طرح حکومت زیر پارٹیوں ہو گی ۔ اور رعایا کو بھی سہولت ہو گی ۔ اس لئے اپیلیٹ اتھارٹی کے الفاظ کو حذف کر کے ریونینیو بورڈ رکھا جائے تو بہتر ہوگا ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل مور اس کو قبول کریں گے یا اس کے علاوہ کوئی موزوں طریقہ ہو سکتا ہے تو جواب میں اس کی وضاحت کریں گے اس کے بعد میں اپنے امندمنٹ پر دوبارہ غور کروں گا ۔

شري کے۔ وی۔ رنگا ریدی ہے۔ اس میں تو صرف مقررہ کی بجائے مجلس مال کے الفاظ رکھنے کی ترمیم پیش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجلس مال کی بجائے ”مقررہ“، ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔ کیوں کہ حالات کے لحاظ سے عدالت میں بھی مرافعہ کرسکتے ہیں یا مجلس مال میں کرسکتے ہیں یا معتمدی میں کرسکتے ہیں۔ لکھتے سے کم درجے کے حاکم کے پاس تو نہیں کرسکتے۔ دیگر دفعات کے منشاء کے لحاظ سے بھی ”مقررہ“، کے الفاظ کا رکھنا ٹھیک ہوگا۔ مجلس مال کے الفاظ رکھنے سے حکام مختص ہو جاتے ہیں۔ سرشته مال میں یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ مقدمات کی ساعت کا اختیار کس کو رہنا چاہئے اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے اس لئے یہاں ”مقررہ“، کے الفاظ کا رکھا جانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ عدالت کو مرافعہ کی ساعت کا اختیار ہوگا تو فریقین کو زیادہ اطمینان ہوگا۔

شري بی۔ ڈی۔ دیشمکھ ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کی جاسکے گی یا عدالت ضلع میں۔ اس بارے میں حکومت کا کیا خیال ہے؟

شري کے۔ وی۔ رنگا ریدی ہے۔ اس میں تو عدالت وغیرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ”مقررہ“، کے الفاظ رکھنے گئے ہیں۔ قواعد کی رو سے جو بھی عملہ دار مقرر کئے جائیں کے اون کو اپیل کی ساعت کا اختیار ہوگا۔ ممکن ہے صدر عدالت یا ہائی کورٹ کو اس کا اختیار دیا جائے۔ اس لئے ”مقررہ“، کے الفاظ رکھنا ہی مناسب ہے تاکہ اوس وقت کے حالات کے لحاظ سے سرکار تعین کرے گی کہ کس جگہ اپیل ہونی چاہئے۔

Mr. Speaker : The question is :

“That for the words ‘the prescribed authority’ wherever occurring in the clause, substitute: ‘Revenue Board’.”

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

“That clause 23 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24, 25, 26, 27 and 28

Mr. Speaker : The question is :

“That clauses 24 to 28 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clauses 24 to 28 were added to the Bill.

Clause 29

Shri K. L. Narsimha Rao : Sir, I beg to move :

"That line 2 of sub-clause (1), omit : 'Naib'."

Mr. Speaker : Amendment moved.

శ్రీ కె. యార్. నరసింహరావు :—స్పీకర్ సర్, ఈ క్లాస్ అం లో కలెక్టరు ఎంక్వయిరీ కొరకు తమపవరీను నాయచీ తహాళిల్ దారుకు తక్కువగానీ వ్యక్తికి ధారాదత్తంచేనే అవకాశం కల్పించ బడ్డది. ఎంక్వయిరీ సమస్య వచ్చినప్పుడు, సాధారణంగా దేశంలో ఏమి జరుగుతున్నదో చూస్తున్నాము. మనం ఎన్నో ఎంక్వయిరీలను చూస్తున్నాం. చివరికి ప్రభుత్వు ఉద్యోగి ఏదైనా తప్పగాని, నేరంగాని చేసినట్టుయితే ఆ కేసును ఎంక్వయిరీ చేసి ఏమితము, అంతా అబద్ధమని చెబుతారు. తెనస్సి చట్టంలోని ఎంక్వయిరీ కమిటీలు ఏమి చేస్తున్నామి చూస్తున్నాము. అవి తహాళిల్ దారు ఆధ్వర్యత్వక్రింద వీర్ఘడిని. అవి ఏ విధంగా, ఎంతవరకు న్నాయం చేస్తున్నామి మనకు తెలుసు. ఒక జైపున, ఒక తపెల్ కు చెందిన ఉద్యోగిని ఎంక్వయిరీకి నియమిస్తేనే ఆ ఉద్యోగి న్నాయం కల్గించేలేకుండా ఉంటే యింకోన్నిపున యా ఎంక్వయిరీ అధికారాన్ని నాయచీ తహాళిల్ దారుకు అప్పగించితే అతను ఎంతవరకు ప్రజలకు న్నాయం చేస్తుదో తెలుసుకోవచ్చు. ప్రజలకు న్నాయం జరుగకుండి విధంగా నాయచీతహాళిల్ దారుకి ఎంక్వయిరీచేనే అధికారం అప్పగిస్తున్నారు. నాయచీతహాళిల్ దారుకే కొదు, గిర్దావర్, పట్టెల్ పట్టువీరీలకు కూడా యా అధికారాన్ని ఇన్నే పొగుంటుంది; వాళ్వాళ్వు స్టోండర్సులుబట్టి, వాళ్వు సమస్యలను అర్థం చేసుకొని న్నాయం కలిగించగలరా, తేదా, అని ఆలోచించి, ఆ విధంగా కొంత స్టోండర్డు కలిగివుండి, న్నాయం కలిగించేందుకు ప్రయత్నించే వారికి ఎంక్వయిరీ చేసే అధికారం అప్పగించబడ్డాలి. మనం ఆనేక విషయాలు చూస్తున్నాం. రెపిన్యూబోర్డునుచంచి ఒక సర్క్వ్యార్ వస్తుంది. దొనిని కలెక్టరు తప్పుడుగా అర్థంచేసుకొని అమలు పరుస్తుదో. ఒక డిస్ట్రిక్టు చెబుతాను. ఒక సర్క్వ్యార్లర్సు తప్పుడుగా అర్థం చేసుకొని పికిండొరుల తీసివేళారు. కొల్పోతామికి దొనిని సరిగొ అర్థంచేసుకోలేదని చెప్పి, తిరిగి వాటిని పట్టులుగా మార్చారు. దీనివల్ల కొన్ని లతలరూపాయలు నష్టము కలిగింది. గత మాసంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెబుతాను. “ఇజ్యారాలు రద్దు అయిపోయినాయి, మిాకు ఇజ్యారాదారుకు సంబంధించేదు, మిారు వాళ్వుకు ఏధిష్టున జిస్తు చెల్లించేనిన అవసరంలేదు, మిారు ప్రభుత్వం తోనే సంబంధం పెట్టుకోండి, ఇజ్యారాదార్లలో ఇక సంబంధం తేదు.”—అని తహాళిల్ దార్ రైలోంగానికి చెప్పటం జరిగింది. ఇజ్యారాదార్లు మంత్రిగానిని కలుసుకొన్నారు. మంత్రిగారు “అది అంతా తప్పు, మిా ఇజ్యారాలు అట్లాగే వున్నాయి, మిా ఇజ్యారాలు రక్షిస్తూనే ఉంటాం మికేమి భయం తేదు, మిారు పోయిగా ఉండివున్న, తహాళిల్ దారు సర్క్వ్యార్లర్సు తప్పగా అర్థం చేసుకొని వుంటాడు. మిారు మామూలుగా జనాన్ని దోషుకోవచ్చును,”—అని ఇజ్యారాదార్లకు చెప్పటం జరిగింది.

కొబట్టి సర్క్వ్యార్లర్సుక్కొన్నామై నుండి పెంబడించే, వాటిని సక్రమంగా ఆచరణలో పెట్టగలిగిన సమర్థత ఉన్నవారేషైనే యా ఎంక్వయిరీ అధికారాన్ని చోపిలే పొగుంటుంది. “ఎంక్వీ సపరో ఒకరు చేస్తారు, దొనికి జనలలో సంబంధంలేదు. న్నాయం జరిగినా, అన్నాయం జరిగినా

వాకు సంబంధం లేదు, యాగ ఏండ్లు గడవటానికి డబ్బు వుండే వారికి, మనకు లొభం చేసేవారికి మేలుచేస్తే చాలు” అని చెప్పి కొంగ్రెసు ప్రభుత్వం ప్రయత్నంచేస్తే లొభంలేదు. కలెక్టర్స్ పహసులీకర్ణార్కూడ నేడు అర్దర్షును అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో వున్నారు. కొబట్టి యా నాయిక్ తపాళిక్ దారుకు ఎంక్వైయరీ చేసే బాధ్యతను ఇవ్వటం కట్టిపెట్టి, గుడ్డలో మెల్లగా కనిసం తపాళిక్ దారుకు తక్కువగాని వ్యక్తికైనా యా అఫీకారం ఇన్నే బొగుంటుందని కోరుతా చేను సవరణ తీసుకు వచ్చాను. దీనిని సహ్యదయంతో ఆలోచించి మంత్రిగారు ఆమోదిస్తారని అచ్చిస్తున్నాను.

శరీకే - ఓి - రంగారిద్ది : - మిని తొమిం కు జోశరీకే - ఆయి - న్రసుమారావు నే పెప్పిశు కి హే కొబులు కృతా హుం - ”నాబ్ కు కోమరుకొను కే లేక యే తొమిం హే - మిని ఆసుకొబులు క్రింగా -

Mr. Speaker : The amendment of Shri K. L. Narsimha Rao has been accepted by the hon. Revenue Minister.

The question is :

“That Clause 29, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clause 13

مسٹر اسپیکر : - دونوں امنڈمنిషస్ جోక్లాజ (۱۳) کے بارے میں دئے گئے ہیں اونکا منشاً اور مطلب ایک ہی ہے - اب یہ غور طلب ہے کہ ورڈنگ کے لحاظ سے کونسا امنڈمنٹ زیادہ مناسب ہوگا - اسکو آفس دیکھ لیگا - شری کے - ہی - رنگاریڈی صاحب کا جو امنڈمنٹ ہے اور اسمیں جو ترمیم آئی ہے وہ دونوں انکو منظور ہیں - اگر شری کے - ہی - رنگاریڈی صاحب کی ترمیم کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا: ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں -

Shri Devisingh Chauhan : Mr, Speaker, Sir, I submit that the legal terminology has to be acceptable to the Member-in-charge of the Bill. It is the privilege of the Member-in-charge of the Bill to satisfy himself about the legal terminology.

مسٹر اسپیکر : - اس وقت دو امنڈمنిషస్ آئے ہیں جو ایک ہی نوعیت کے ہیں - میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ممبر انچارج آف دی بل کس امنڈمنٹ کی ورڈنگ کو قبول کرتے ہیں -

شري کے - وی - رنگا ریدی :- میں شری دیوی سنگھ چوهان کی امنڈمنٹ کو قبول کرتا ہوں کیونکہ اوس امنڈمنٹ کے الفاظ ٹھیک معلوم ہوتے ہیں ۔

Mr. Speaker : I shall now put the amendment of Shri K.V. Ranga Reddy as amended by Shri Devisingh Chauhan to vote. The question is :

"That for clause 13, substitute the following :—

'13. The compensation payable to the Inamdar, Kabiz-e-kadim, permanent, protected tenant or non-protected tenant for Inam lands in their possession before the date of vesting and taken over by Government in excess of four and a half times the 'family holding' under sections 4, 5, 6, 7 and 8 respectively, shall—

(1) in respect of cultivated lands be the following multiples of the amount of land revenue payable on such lands—

(a) lands taken over from non-protected tenants, ten times in case of dry lands and five times in case of wet lands ;

(b) lands taken over from protected tenant or permanent tenant, fifteen times in case of dry lands and seven times in case of wet lands ;

(c) lands taken over from the Kabiz-e-kadim or inamdar, twenty times in case of dry lands and ten times in case of wet lands.

(2) in respect of uncultivated lands be the following multiples of the amount of land revenue which could reasonably be assessed on such lands—

(a) lands taken over from non-protected tenant, four times in case of dry lands and two times in case of wet lands ;

(b) lands taken over from protected tenant or permanent tenant, six times in case of dry lands and three times in case of wet lands ; and

(c) lands taken over from the Kabiz-e-kadim or inamdar, eight times in case of dry lands and four times in case of wet lands.'"

The motion was adopted.

Mr. Speaker : The question is :

"That clause 13, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

"Clause 13, as amended, was added to the Bill",

Clauses 30, 31, 32 & 33

Mr. Speaker : There are no amendments to Clauses 30, 31, 32 & 33. The question is :

“That Clauses 30 to 33 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

“Clauses 30 to 33 were added to the Bill.

شري کے - وی - رنگا ریدی : - سٹر اسپیکر سر - میں ایک جدید دفعہ اس بل میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں - یہ دفعہ انگریزی میں ابھی تیار ہو رہا ہے اس لئے میں اوسکو مموو کرتا ہوں -

دفعہ ۱۳ - ” باوجود مندرجہ احکام قانون هذا یا کسی اور قانون نافذالوقت کے اگر کوئی دوامی قولدار یا محفوظ قولدار یا غیر محفوظ قولدار نے انعامدار کے حق قبضہ کی پاتھے قبل ازین معاوضہ ادا کیا ہو اور وہ اوس پریم سے (۶۰) فیصد یا اوس سے زائد ادا کیا ہو جو اوسکو ازروئے احکام قانون هذا ادا کرنا لازمی ہوتا تو اوسکے پریم میں ۶۰ فیصد بجا دیا جائیگا۔ اگر وہ ۶۰ فیصد پریم سے کم ادا کیا ہوتا ہے قدر مقدار ادا شدہ اسکو بجا دیا جائیگا جسقدر رقم قولداروں کو پریم میں حسب مذکور بجا دیجائیگی وہ انعامدار کے معاوضہ سے منہا کی جائیگی ”۔

اس دفعہ کو بطور دفعہ ۱۳ قائم کیا جائے اور اسکے بعد کے نمبروں کو تبدیل کیا جائے - یہ ابھی انگریزی میں تیار ہو رہا ہے -

Mr. Speaker : Amendment moved.

چونکہ یہ دفعہ ابھی انگریزی میں تیار ہو رہا ہے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم الگورن ہو کر ۶ بجے ملیں - چونکہ یہ جدید دفعہ ہے اس لئے آنریبل ممبرس کو پوری طرح غور کرنے کا موقع ملتا چاہئے - دفعہ کے الفاظ اون کے سامنے رہیں تو مناسب ہے -

The House then adjourned for recess till Six of the Clock.

The House re-assembled after recess at Six of the Clock.

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair*]

Clause 34

Mr. Deputy Speaker : There is only one amendment standing in the name of Shri Ananth Reddy and the hon. Member is not present in the House. As such I shall put at the clause to vote.

The question is :

"That clause 34 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

"Clause 34 was added to the Bill".

Clauses 35 & 36

Mr. Deputy Speaker : The question is :

"That clauses 35 and 36 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

"Clauses 35 and 36 were added to the Bill".

Mr. Deputy Speaker : As regards the new clause proposed to be moved by the Member-in-charge of the Bill, we will take it up tomorrow as the text of the clause has been circulated to the Members now only. They can table amendments if any to this clause before 12 noon tomorrow. We will now take up the next item on the agenda.

L. A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad Prisoners Bill, 1954.

*The Deputy Minister for Home, Law and Rehabilitation
(Shri Srinivas Rao Ekheliker)* : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad
Prisoners Bill, 1954 be read a first time."

Mr. Deputy Speaker : Motion moved.

श्री श्रीनिवासराव ओखेलीकर :—मिस्टर स्पीकर सर, बिल के बारे में मुझे यह कहना है कि १९५२ के अप्रैल को तमाम हिंदुस्तान के कवानीन यहाँ पर अप्लाय (Apply) किये गये। किमिनल प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) और दूसरे कवानीन अप्लाय हुआ और अनुके तहत कौन से जुर्म को कितनी सजा देनी चाहिये और ट्रायल (Trial) कैसी होनी चाहिये वगैरा के बारे में अनु कानून के अप्लाइकेशन (Application) के जरिये तमाम हिंदुस्तान में अंकसानियत लाभी गई। लेकिन सजा की तामील कैसी होनी चाहिये अिसके बारे में अंकसानियत नहीं थी और अिसके बारे में पार्ट बी स्टेट्स (Part 'B' States) में अलग अलग कानून थे। पार्ट बी स्टेट्स को अिसके सिलसिले में पार्ट ऐ स्टेट्स (Part 'A' States) के बराबर लाना था और अंकसानियत पैदा करना जरूरी था। जब कि दूसरे कवानीन के जरिये

जो सजा दी जा रही है अुसमें अन कवानीन के जरिये अेक्सानियत आ गयी। द्रायल और सजा में अेक्सानियत आ गयी चिसलिये जरुरी हो जाता है कि अिसकी तामीली के बारे में भी अेक्सानियत पैदा की जाय। अिस लिहाज से सन १९०० के जो प्रीजन्स ऐक्ट (Prisons Act) और प्रीजनर्स ऐक्ट (Prisoners Act) थे अुन्हों को थोड़ासा तरमीम कर के वहां पर पेश किया जा रहा है। हालांकि पहले यहां यह प्रीजनर्स बिल (Prisoners Bill) अिस वक्त फस्ट रीडिंग (First Reading) के लिये पेश किया गया है। किस तरह से प्रिजनर्स को महबस में दखिल किया जाय और अुसके बाद अनको किस तरीके से डिसचार्ज (Discharge) किया जाय, अगर वहां पर अनकी दिमागी हालत खराब हो तो अनको कहां रखा जाय, किस तरीके से अमल किया जाय अिस बारे में अेक प्रोसीजर (Procedure) अिस कानून में बताया गया है। गोकि पहले जावता महबस के नाम से अेक जावता यहां मौजूद था लेकिन चूंकि दूसरे कानूनों के मुताबिक यहां अेक्सानियत लानी थी - अनके महबस में दखिली के बारे में, अनकी रिहाई के बारे में, अेक जेल से दूसरे जल में मुन्तकिली के बारे में चिसलिये सन १९०० के सेट्रल ऐक्ट के मुमासिल अेक प्रिजनर्स बिल के नाम से अेक बिल अिस हाबूस में पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह अेक अंसा बिल है जिसमें कान्ट्रेवरशियल (Controversial) बात नहीं है। सिर्फ अेक्सानियत पैदा करने के लिये यह पेश किया जा रहा है। मैं अमीद करता हूँ कि अिसकी फस्ट रीडिंग (First Reading) मंजूर की जायगी।

شري کے۔ وینکٹ رام راؤ (چنا کونڈور) :- یہ بہ جو هاؤز کے سامنے لایا گیا ہے وہ سنٹرل ایکٹ کی ہو بھو تقل ہے۔ سنٹرل پرزنس ایکٹ (Central Prisoners Act) اور سنٹرل پرزنس ایکٹ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دونوں قوانین ۱۹۰۰ سال قبل کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج کے حالات کے جو تقاضے ہیں انکو نظر انداز کر کے جوں کا توں سنہ ۱۹۰۰ کے قانون کو یہاں منظور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوںکہ جتنے قوانین محبوس و محبوس کے متعلق ہیں اور انکے تحت جو قواعد وغیرہ ہیں ان تمام کو ایک جگہ منضبط کر دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہاں کم از کم پرزنس بل اور پرزنس بل کو ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے پیش کرنا چاہئے تھا۔ ان دونوں کو الگ الگ رکھنے میں علحدہ علحدہ پیش کرنے میں مجھے کوئی مصلحت نظر نہیں آئی سوائے اسکے کہ چونکہ سنٹرل ایکٹ ایسا بن گیا ہے اسلئے ہمیں بھی یہاں پر الگ الگ پیش کرنا چاہئے۔ اسکے سوائے مجھے موجود آف دی بل کے سامنے کوئی اور اصول پیش نظر ہے معلوم نہیں ہوتا۔ اس بل میں یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی شخص کو محبوس کرنا ہے تو عدالت کی جانب سے ایک بڑا فارنٹ دیا جائیگا۔ اسکو ایک مقروہ مقام پر محبوس کر دیا جائیگا۔ اسی حد تک تو ہمارے پاس عمل رہا ہے ایک پرزنر کو ایک محبوس سے دوسرا میں میں منتقل کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہوگا اس پر اس بل میں غور نہیں کیا گیا ہے۔ تخصوصاً حیدرآباد کے جو حالات ہیں انکو درشتی میں لیتے تو شائست دفعہ، اک جوں کا ہوں نہ رکھا جاتا۔ عرصہ دراز سے یہ مطالیہ ہے کہ کسی قیدی کو ایک مقام سے

دوسٹے مقام پر منتقل کرتے ہیں تو اسکی زبان کا بھی لحاظ کرنا چاہئے یعنی تلنگانہ کے ایک قیدی کو لیج� کر مرحوم ہٹوارڈ میں اور مرحوم ہٹوارڈ کے قیدی کو کرنالک میں منتقل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قابل اعتراض اور ساتھ ساتھ مضبوطی ہے۔ محبس میں رکھ کر اسکو سزا دینے کا جذبہ ہی نہ ہونا چاہئے بلکہ موجودہ بدلتے ہوئے نظریے کے تحت رفارمیشن (Reformation) کا بھی جذبہ ہونا چاہئے۔ جب ہم رفارمیشن کے لئے اقدام کرو ہے تو مرحوم ہٹوارڈ کے قیدی کو تلنگانہ میں اور تلنگانہ کے قیدی کو مرحوم ہٹوارڈ میں منتقل کرنے سے جو اصول ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں روٹے اٹکانے کے مثال ہو گا۔

ایک اور چیز مجھے ایوان کے علم میں یہ لانا ہے کہ جب ایک محبس سے دوسرا محبس میں قیدیوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی انہیں بہت سی مشکلات جھیلنا پڑتا ہے۔ جب انہیں منتقل کیا جاتا ہے تو جو بہتہ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ بہت قلیل ہے اور اسپر کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ رہا ہے کہ صرف ایک دو دن کے لئے بہتہ دیا جاتا ہے اور وہ بھی صرف ۸ آنے یا ۸ آنے کی حد تک۔ ۸ آنے میں وہ کیا کھا سکرے گا یہ قابل غور ہے۔ شائیں اس سے دو مرتبہ چائے وغیرہ بھی پوری طرح نہیں خرید سکتا۔ اس طرح کے پرانے گشتیات کو منسوخ کیا جاتا اور موجودہ حالات میں نئے طریقوں سے غور کرنے تو بہتر تھا۔ اس سلسلہ میں ایک امندمنٹ بھی آیا ہے اسوقت میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں گا۔

ایک آخری دفعہ یہ ہے کہ ہائیکورٹ کو کسی پرزنر کو ڈسچارج کرنے کے لئے اختیارات دئے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان اختیارات کی کس طرح عمل آوری ہو گی۔ اس سلسلہ میں قواعد وغیرہ مرتب کرنے کے لئے بھی کوئی پراویزن نہیں ہے۔ دفعہ ۱۳ پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ہائیکورٹ کے بعض اعلیٰ اختیارات ہیں اسکے تحت وہ کسی قیدی کو جو محبس میں محبوب ہے رہا کریگا۔ لیکن جہاں ہم قانون میں ایسے اختیارات دیتے ہیں اور ایک پراویزن رکھتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اسکی عمل آوری کے لئے قواعد بنانے کے لئے بھی پراویزن نہیں ہوتا چاہئے۔ لیکن دفعہ ۱۳ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہائیکورٹ عمل یہ اختیارات استعمال نہیں کریگا۔ نیز درخواست پیش کرنے کے سلسلہ میں بھی کوئی تفصیلات نہیں دیگئی ہیں۔ ان چیزوں کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جو اختیارات ہائیکورٹ کو دینگے وہ صرف کاغذ کی زینت بنتے رہیں گے اور عملی طور پر کوئی شخص ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ میں امید کرتا ہونکہ ان چیزوں کے متعلق مجھے تشفی بخش جواب دیا جائیگا۔

شی. شری نی�ا سارا و اولے لیکر:—سپیکر سر، آنارکلی ممبر نے جو اولتاراجاتھ ایس بیل پر پہنچ کیا ہے بعثت میں ساتھ سے پہنچا اولتاراجاتھ یہ ہے کہ دو تینوں بیلوں کو ایک جگہ کلنسا لیڈٹ کارکے کیوں نہ ہیں پہنچ کیا گیا۔ یہ دو تینوں بیل اسلامیہ اسلامیہ ہیں۔ یہاں کی پریجننس بیل (Prisons Bill) اور پریجننس بیل (Prisoners Bill) ایک دوسرے سے جڑھ رہے ہیں۔

ताल्लुक रखते हैं लेकिन प्रिजनर्स बिल सिर्फ असी हद तक महबूद है कि किसी प्रिजनर को कहां, किसके हुक्म पर महबूस में दाखिल करना, वह कब और किन हालात में अेक जेल से दूसरे जेल में मुन्तकिल किया जायगा और कब और किसके हुक्म पर असको रिहा किया जायगा। यानी प्रिजनर के बारे में मुन्तकिली, रिहाओं या दिमागी हालात खराब होने के बाद असको कहां और किस तरह से ले जाना वगैरा चीजों की हद तक ही यह बिल डील (Deal) करता है। प्रिजन (Prison) के कवायद बिल्कुल अलाहिदा चीज है। प्रिजन किसको कहा जायगा और असके बारे में जो कवानीन् हैं वह अेक अलग चीज है जो अेक मुकाम के बारे में और वहां रखे जाने के बारे में होगा। अिसके बाद ही वह बिल आनेवाला है। गो अिन दोनों का कुछ ताल्लुक अेक दूसरे से हो लेकिन मैं नहीं समझता कि अिनको अलाहिदा अलाहिदा पेश करने से कोओी नुकसान होता है या अिसपर कुछ अंतराज हो सकता है। मैंने अपनी अिक्तदाती तकरीर में कहा था कि हमको दूसरे प्रांतों के कानूनों से अेकसानियत पैदा करना था। और अिस वक्त दूसरे स्टेट्स (States) में भी प्रिजन्स बिल और प्रिजनर्स बिल दोनों अेक नहीं हैं, वे बिल्कुल अलाहिदा अलाहिदा हैं। अिस लिहाज से अगर हम अिन दोनों को अेक जगह ला कर पेश करते तो शायद हम अेकसानियत पैदा नहीं करते जो दूसरे स्टेट्स में है। अिसलिये अिनको अेक साथ पेश करने से कोओी फायदा नहीं है और न करने से कोओी नुकसान नहीं है। तो अैसी हालत में हम अेकसानियत को क्यों कर खो बैठें? अिस लिहाज से दूसरे स्टेट्स के मुमासिल यह बिल पेश किया गया है। अिसलिये अिस पहले अंतराज में कोओी माकूलियत नहीं है।

दूसरा अंतराज मुन्तकिली के बारे में पेश किया गया। अिसके बारे में जो सेक्शन (Section) है असके बारे में कहा गया। अिसके सिलसिले में कोओी ठोस चीज नहीं पेश की गयी कि क्या चीज की जानी चाहिये। सेक्शन १० के तहत “Removal of any person” अिसके बारे में कोओी कवायद या चीज नहीं बतायी गयी। अिस सेक्शन में मुन्तकिली कैसी हो यही सिर्फ बताया गया है और अिसके बारे में कोओी खास चीज नहीं बयान की गयी कि क्या होना चाहिये। अगर कोओी ठोस तरमीम पेश की जाय तो अस वक्त अिसके बारे में गौर किया जा सकता है।

شروع کر۔ وینکٹ رام راؤ:— ایک ترمیم دی گئی ہے مگر وہ ہیاں نہیں آئی۔

شی. شرीनिवासराव अखेलीकर:— तरमीम के वक्त गौर किया जा सकता है।

شروع سی ایچ۔ وینکٹ رام راؤ (कر्मन्गर):— پوائنٹ آف انفرمیशن - اسی ضمن میں ہارا ایک امنڈمنٹ رکھا گیا تھا دوسرے امنڈمنٹ آچکے ہیں لیکن ہارا امنڈمنٹ نہیں آیا۔ اس امنڈمنٹ کا کیا ہوا معلوم نہیں۔

مسٹر ڈہنی اسپیکر:— کیا آپ ने अन थार्म (In time) پेश कیا था?

شی. شرीनिवासराव अखेलीकर:— दूसरी चीज भत्ते के बारे में कही गयी। भत्ते के बारे में जेल रेशन (Ration) मुकर्रर रहता है। वह जितना वहां दिया जाता है अतना ही मुन्तकिली के बाद भी दिया जाता है। अगर अिसके बारे में कवायद के तहत कोओी अंतराज हो तो वह अस महल पर पेश करने पर दूर किया जा सकता है। भत्ता ज्यादा होना चाहिये या नहीं अिस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन अिस बिल के तहत भत्ते का कोओी सवाल पैदा नहीं होता।

चौथी जो चीज आनरेबल मेंबर की जानिब से पेश की गयी वह रिहायी के बारे में है। अिसमें एक प्रोवीजन (Provision) है कि अलावा अिसके अदालत के हुक्म के बिना या हायकोर्ट (High Court) के हुक्म के बिना बतौर पार्डन (Pardon) के रिहायी हो सकती है। औंसा क्लॉज १३ में बताया गया है। यहां पर सिफ़ अितना ही बताया गया है कि हायकोर्ट को भी औंसा अेस्ट्रियार है कि वह गवर्नरमेंट (Government) की मंजूरी से किसी की सजा माफ करे और रिहायी का हुक्म दें। अिसके बारे में जो दूसरा अेस्ट्रियार है वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि रिहायी के बारे में दरखास्त कैसे दी जाय बगैर। यह एक अलग चीज है लेकिन यहां पर सिफ़ अितना ही है कि प्रिजनर (Prisoner) को किस के हुक्म पर और कब रिहा किया जायगा। अितना सब होने पर भी दूसरे कवानीन बदस्तूर रहते हैं। अनुके प्रोवीजन्स के तहत सजा करने का जो तरीका है वह अपनी जगह पर कायम है। यहां पर सिफ़ अितना ही है कि किसके हुक्म की बिना पर कब रिहा किया जायगा। अिसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे सजा होने के बाद भी रिहा किया जाता है या सजा माफ़ी के तहत रिहा किया जा सकता है। औंसा हायकोर्ट को अेस्ट्रियार है अितना ही अिसमें कहा गया है। अिसकी वजह से कानून में कोअी नुक्स पैदा नहीं होता और मैं नहीं समझता कि अिसमें कोअी और चीज अिसके सिवा पेश की गयी है।

और एक चीज आनरेबल मेंबर की जानिब से पेश की गयी कि सन १९०० का यह कानून है और आज ५४ साल के बाद अुसी हालत में यहां पेश किया जा रहा है। यह सही है कि अंकृत १९०० का है लेकिन अुसमें सन १९५२ तक जितने तरमीमात सेंट्रल अैक्ट (Central Act) में और दूसरे स्टेटों में हुआ हैं अुनका लिहाज रखते हुओं अिसको पेश किया जा रहा है। और सन १९५३ और ५४ में आज तक कोअी अमेंडमेंट (Amendment) किसी दूसरे स्टेट में या सेंटर में नहीं हुआ है। अिसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह ५४ साल पहले का बिल है। आज तक के पूरे तरमीमात अिसमें अिनकापोरेट (Incorporate) किये गये हैं। अिस में भुजे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अमीद करता हूँ कि अिसका फस्ट रीडिंग (First reading) मंजूर किया जायगा।

شري اانا راؤ گن مکھی(افضل پور) :- پوائن्ट آف انفريمشن سر۔ اسٹيٹमेंٹ آف آजिक्षش اइन्ड रिज़न्स (Statement of Objects & Reasons) کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فوجداری عدالتیں اور دیوانی عدالتیں جب کسی قیدی کو شہادت کئے طلب کرتی ہیں تو اس کے لئے سنٹر ایک قانون بننا رہا ہے۔ کیا آپ اس لئے یہ طریقہ رکھئے ہیں کہ جب وہاں کوئی قانون بنے گا تو یہاں بھی اس پر عمل کریں گے۔ کیا سنٹر سے کوئی مراسلت ہوئی ہے کہ وہاں ایسا کوئی قانون آ رہا ہے؟

श्री. श्रीनिवासराव अखेलीकर :—पेश हो रहा है।

Mr. Deputy Speaker : The question is :

“That L. A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad Prisoners Bill, 1954, be read a first time.

The motion was adopted.

Shri Srinivas Rao Ekhelikar : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad Prisoners Bill, 1954, be read a second time".

Mr. Deputy Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XX of 1954, the Hyderabad Prisoners Bill, 1954, be read a second time".

The motion was adopted.

شري بی - ڈی - دیشمکھ : - میں ایک چیز آنریل اسپیکر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بل کے بارے میں چند امنڈمنٹس آئے ہیں - ہوسکتا ہے کہ وہ ابھی آنس میں ہوں یا ابھی پرنٹ نہ ہوئے ہوں - اس کے علاوہ جو دوسرے امنڈمنٹس ہیں ان کے مسوروں ہاؤز میں نہیں ہیں اس لئے آج ہاؤز الجرن ہو اور کل اس بل کو لیا جائے - ورنہ یہ ہوگا کہ بلا امنڈمنٹس کے یہ بل پاس ہو جائے گا - انت ریڈی صاحب بھی یہاں نہیں ہیں اور میرا امنڈمنٹ بھی ہاؤز کے سامنے نہیں ہے اس لئے ہاؤس آج الجرن ہونا چاہئے -

مسٹر ڈبھی اسپیکر : - میں اس بنا پر ہاؤز الجرن کرنا نہیں چاہتا کہ انت ریڈی صاحب نہیں ہیں اور دوسرے امنڈمنٹس کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ملی - البته میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امنڈمنٹس کل لئے جائیں - اگر ہاؤز مناسب سمجھئے تو ہم پریزنس بل (Prisons Bill) کی فرست ریڈنگ لینگے -

شري بی - ڈی - دیشمکھ : - اس بارے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مختلف قسم کے قوانین پریزنس (Prisons) اور پریزنس (Prisoners) کے بارے میں آرہے ہیں - ہاؤز کے ممبرس ان کے بارے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں - اس لئے اس قانون کی تیاری کے لئے جیل مینول (Jail manual) سبلائی کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ باعث سہولت ہوتا اور یہ ضروری بھی تھا - میں لیڈر آف دی ہاؤز سے رکوٹ (Request) کروں گا کہ کم از کم بہت کے دوران میں جیل مینول کی کاپیز فراہم کیجائیں - اور بت مسکن ہے کہ اس سے متعلقہ چیزوں اور پرسویسیر سے واقف ہونے کے بعد جو امنڈمنٹس دئے جانے والے تھے وہ نہ دئے جائیں - اگر ان میں موڑوں کیتھوں بڑی حد تک مباحث بھی نہ ہوں گے اس لئے جیسے اسٹیٹ لائز (State Laws) کے متعلقہ قوانین دئے جائے ہیں ویسے ہی جیل مینول دیا جائے -

منسٹر فار ہوم، لا اینڈ ری ہیبیلیشن (شری د گمبر راؤ بندو) : - اون کی پرنشیڈ کاپیز Printed copies () موجود ہیں یا نہیں مجھے شہید ہے - اگر کاپیز ہیں تو ضرور فراہم کی جائیں گی - اور جتنی بھی سہولتی آنریل ممبرس کو دی جاسکتی ہیں دی جائیں گی -

شري بی - ڈی - دیشکھہ : - جتنی کاپیز بھی مل سکتی ہیں وہ فراہم کی جائیں تو اچھا ہے۔

شري د گمبر راؤ بندو : - میں کوشش کروں گا۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر : - اگر کل اس بل کو جلد ختم کرنے کی کوشش کریں تو مناسب ہوگا۔

شري کے۔ وینکٹ رام راؤ : - کل ہوم منسٹر صاحب کے اسٹیلمنٹ کی کاپیاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب تک نہیں دئے گئے۔ کم سے کم کل ہار بجے تک دی جائیں تو مناسب ہوگا۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر : - میں دربات کروں گا۔

*The House then adjourned till Half Past Two of the Clock
on Saturday, the 4th September, 1954.*
